

English Translation Test-1

Time Allowed: 40Minutes

Note:

1. Assignment must be handwritten.
2. Upload it in "Quiz/Assignment" section, otherwise it will not be checked.

Name: _____	Batch: _____
Campus: _____	

Q. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.
(10)

اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپکی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اسطرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور آپ کے پاؤں برائی کے راستے پر جانے سے رک جاتے ہیں تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے۔ صالح بننا مسلسل تذکیہ اور مجاہدے کا عمل ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے اور تکلیفیں بھی سہنا پڑتی ہیں۔

If you are not lured by the world, if your eyes get wet because of fear of Allah, if the thought of hell instills fear of God in you, if you worship Allah as it ought be done, if goodness attracts you and you refrain from evil paths, then you are righteous/pious. Some are born righteous, some become righteous. Being righteous is a fortunate thing. Becoming righteous is a continuous process of purification and struggle. It takes time and also requires enduring hardships.

English Solved translation passage of today's test m Test - 1

Name: A. Shah

Batch: 39

Campus: Rawalpindi

work on the mentioned and highlighted mistakes and consult the solved passage.

4/10

If world does not fascinate you, if God's fear gets you teary eyes, if perception of hell makes you to fear God, if you worship God as it worths, if goodness appeals you and cease to go wrongway, then you are a righteous. Some are righteous, some are in making. Being righteous is good lot. To be a righteous is a continuous process of pondering and struggle. It takes time and bears you sufferings.